

23 جنوری 2019

سٹی آف برامپٹن کو فنانشل رپورٹنگ کے باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا

برامپٹن، آن – متواتر 17 سال سے، سٹی آف برامپٹن کو اپنی 2017 کی [اینوئل فنانشل رپورٹ](#) کی بنیاد پر کینیڈین ایوارڈ فار ایکسیلنس ان فنانشل رپورٹنگ سے نوازا گیا ہے۔

یہ ایوارڈ امریکہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانش آفیسرز ایسوسی ایشن (GFOA) کا شروع کردہ ترغیبی اقدام ہے۔

اس ایوارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے، سٹی کو:

- چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس (CPA) کے پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ بورڈ (PSAB) کی جانب سے متعین کردہ جنرلی ایکسیٹیوڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز (GAAP) کی کم از کم مطلوبہ شرائط سے آگے جانا تھا۔
- شفافیت اور مکمل تشہیر کی بنیادی روح کے ساتھ سالانہ بنیادوں پر ایک جامع اور اعلیٰ معیار کی فنانشل رپورٹنگ تیار کرنا تھی۔

اقتباس

"ہمارے ٹیکس دہندگان، مکمل شفافیت اور اپنے پیسے کے بطریق احسن استعمال سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہو سکتے۔ فنانشل رپورٹنگ پر باوقار GFOA ایوارڈ کا حصول، شہریوں کے لیے ہمارے عزم کی تصدیق کرتا ہے اور جب ہم قومی اور بین الاقوامی سطح کے سرمایہ کاروں کو برامپٹن کی جانب راغب کریں گے تو یہ ہماری ساکھ کو بہتر بنائے گا۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca